



## سوال

(32) زکاة کے مال کو مسجد کے کاموں میں خرچ کرنا

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

کیا مال زکوة مسجد کے کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں؟ مثلاً: زکوة سے اس لیے جائیداد خریدنا مسجد کی عمارت بنانا۔ یا امام مؤذن کو تنخواہ یا انعام دینا یا روزہ داروں کو کھلانا جائز ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، أما بعد!

زکوة کا مال مسجد کے کسی کام صرف کرنا جائز نہیں نہ اس سے کسی کو اذان یا امامت کی اجرت یا انعام جائز ہے۔ نہ مالدار روزہ داروں کو اس سے کھلانا جائز ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

## فتاویٰ شیخ الحدیث مبارکپوری

جلد نمبر 2 - کتاب الزکاة

صفحہ نمبر 77

محدث فتویٰ